



الحمد لله رب العالمين

او! نماز سکھیں

(مع رنگ بھرنے کی کتاب)



مؤلف
مولانا سید منہاج احقر



او! نماز سے کھیں

(مع رنگ بھرنے کی کتاب)

تصدیق کردہ
حضرت مفتی محمد صاحب مدظلہ
غمران دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی

مؤلف

مولانا سید منہاج الحق
استاذ جامعہ احتشامیہ کراچی

ایم آئی ایس پبلیشورز

523، بلاک ۵، آدم بی بی گرینز، کراچی، پاکستان

فون: 021-4931044 - 4944448

ویب سائٹ: www.mis4kids.com

کتاب مفت تقسیم کے لیے رعایتی نرخ پر براہ راست ایم آئی ایس سے حاصل کریں۔

جملہ حقوق بحق ناشر حفظ ہیں۔

نام کتاب: آواز نماز سکھیں
 مؤلف: مولانا سید منہاج الحق
 معاونین: مبشر احمد خان، عمر عبدالرشید
 لے آؤٹ ڈرائیور: عاصف سعید
 تصویری خاکے: محمد یاسین
 صفحات: 56
 ناشر: ایم آئی ایکس پبلیشورز
 اشاعت اول: ہنادی الٹانی ۱۴۲۹ھ / جون ۲۰۰۸ء

نوٹ

یہ کتاب "نمازیں سنت کے مطابق پڑھیں" (مرتبہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ)، "کامل نماز" (مرتبہ حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب مدظلہ)، "آسان نماز" (مرتبہ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ تعالیٰ) اور "احسن المسائل" (مرتبہ مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ) کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

نماز دین کا انتہائی اہم ستون ہے۔ اور اس فریضہ کی اہمیت پر کس قدر توجہ دلانی گئی ہے، اس سے سمجھی مسلمان واقف ہیں۔ اور نماز چونکہ دینی اور شرعی فریضہ ہے اس لیے اسے شریعت کی طرف سے سکھائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔

آج کل اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگوں سے نماز کے مسنون طریقے میں کوتا ہی ہو جاتی ہے۔ اور بچے بھی چونکہ بڑوں کی دیکھاویکھی نماز پڑھتے ہیں اس لیے وہ بھی مسنون طریقہ نہیں سیکھ پاتے (الاماشاء اللہ)۔

اس کتاب کا بنیادی مقصد بچوں کو نماز کا مسنون طریقہ سکھانا ہے، اس لیے اس میں نماز کے اركان کے طریقہ پر ہی زور دیا گیا ہے، البتہ آخر میں نماز سے متعلق کچھ ضروری تفصیل بھی دے دی گئی ہے۔ نماز کے انفال کی مزید وضاحت کے لیے مکانہ حد تک تصویری خاکے بھی دیے گئے ہیں۔

اور چونکہ یہ کتاب اصلاً بچوں کے لیے ترتیب دی گئی ہے (اگرچہ بڑے بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں)، چنانچہ بچوں کی دلچسپی بڑھانے کے لیے اس کتاب کے آخر میں سادے خاکے بھی دیے گئے ہیں تاکہ بچے ان میں رنگ بھر سکیں، اور اس کتاب کو شوق سے پڑھیں۔

واعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو شرف قبولیت عطا فرمائیں اور بچوں اور بڑوں کے لیے مفید بنائیں۔

آمین ثم آمین۔

فقط والسلام
ڈاکٹر یکشرا یم آئی ایس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تمہید

پیارے بچو! نماز دین اسلام کا انتہائی اہم ستون اور فریضہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے، یعنی آدمی صحیح معنوں میں مومن و مسلمان تب ہی ہو سکتا ہے جب کہ وہ اور احکامات کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا رہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی نماز کی ادائیگی میں کوتا ہی کرے تو وہ معاذ اللہ ایمان سے دور ہو جاتا ہے اور کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، گویا کہ ایک مسلمان شخص نماز چھوڑتے ہی نہیں سکتا کیونکہ نماز چھوڑنا مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا۔

اور یہ پات تو آپ کو معلوم ہی ہو گی کہ دین و شریعت کے عمل کو بالکل اسی طرح انجام دینا ضروری ہے جس طرح اسے سکھایا گیا ہے۔ چنانچہ نماز جیسے اہم فرض کو بھی اچھی طرح ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کے ہر عمل اور کرن کو بالکل اس طرح ادا کریں جس طرح اللہ کے رسول ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے نماز سکھائی۔

لہذا اس کتاب میں ہم سنت کے مطابق نماز پڑھنا سیکھیں گے انشاء اللہ۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے پہنچ وقت نماز کا پابند بنائیں، اور نماز کو عین سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے تمام اعمال کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں۔ آمين ثم آمين۔

نماز کے اذکار

تکبیر

اللّٰہُ أَكْبَرُ

(اللہ سب سے بڑا ہے۔)

شانع

سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ
 (اے اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کا نام بہت
 برکت والا ہے اور آپ کی بزرگی بہت برتر ہے اور آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔)

تعوذ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ
 (میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔)

تسبیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔)

سورۃ الفاتحة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ○ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ○ مَلِكُ يَوْمِ الدِّيْنِ○
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ○ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ○ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ○ غَيْرِ المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ○ وَلَا الضَّالِّينَ○

(ہر قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پانے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، (اے اللہ) ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سید ہے راستے پر چلائیں، ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر آپ کا غصہ ہوا اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔)

ایة الکرستی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلٰهُ هُوَ الْحٰجُ الْقَيْوُمُ وَلَا تَنْخُذُنَا سَنَةً وَلَا تُؤْمِنَنَا فِي السَّمَوٰتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَلِكُمْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِذِنِّهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدٍ يَهُمْ
وَمَا خَلَقُهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَنْعُدُ ذِيْقَنَهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

(اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں، زندہ ہے سب کا تھامنے والا، نہیں پکڑ سکتی اس کو انگھ اور نہ نیند، اسی
کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی
اجازت سے، جانتا ہے جو کچھ خلقت کے رو برو ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب
احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہی چاہے، گنجائش ہے اس کی
کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کو، اور گران نہیں اس کو تھامنا ان کا، اور وہی ہے سب سے برتر
عظمت والا۔)

سورۃ الکوثر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَلَا تُنْهِنَّ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْمُبْتَدِرُ ○

((اے نبی) ہم نے آپ (ﷺ) کو کوثر عطا کی ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز
پڑھیں اور قربانی کریں۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بنام و نشان ہو جانے والا ہے۔)

سورة الاخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ^۱ اللَّهُ الصَّمَدُ^۲ لَمْ يَكُنْ لَّهُ^۳ كُفُواً أَحَدٌ^۴
يُولَدُ^۵ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ^۶ كُفُواً أَحَدٌ^۷

((اے نبی) کہ دیکھیے کہ وہ (یعنی) اللہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کا برابر نہیں۔)

سورة الفلق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ^۱ مَنْ شَرِّمَا خَلَقَ^۲ وَمَنْ
شَرِّعَ كِسِيقاً^۳ إِذَا وَقَبَ^۴ وَمَنْ شَرِّعَ النَّفَثَاتِ فِي الْعُقَدِ^۵
وَمَنْ شَرِّحَ أَسِدًا^۶ إِذَا حَسَدَ^۷

((اے نبی دعا میں یوں) کہیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے اور اندر ہیری رات کے شر سے جب وہ آجائے، اور گر ہوں پردم کرنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آجائے۔)

سورة الناس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

فَلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○ إِلٰهِ النَّاسِ ○
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ○ الَّذِي يُوْسُوسُ فِي
صُدُورِ النَّاسِ ○ مِنَ الْجُنَاحِ وَالنَّاسِ ○

((اے نبی دعا میں یوں) کہیں کہ میں آدمیوں کے رب، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنات میں سے ہو یا آدمیوں میں سے۔)

رکوع کی تسبیح

سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ

(میں پا کی بیان کرتا ہوں اپنے پورا دگار بزرگ کی۔)

قوم کی تسمیع

سَمِيعُ اللّٰهُ لِيَتَعَنْ حَيْدَةً

(الله نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔)

قوم کی تمجید

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

(اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔)

سبحانہ کی تسبیح

سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَمْ

(میں پا کی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار برتر کی۔)

تشریفیات

الْتَّحَيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوةُ وَالظَّبَابُتُ السَّلَامُ عَلَيْنَكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَّكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلِيْحِينَ اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

(تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، سلام ہو آپ پر اسے نبی اور اللہ کی حمتیں اور اس کی برکتیں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ (حضرت) محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔)

دروود شریف

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
 صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
 اللَّهُمَّ بَارِكْ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
 إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ○

(اے اللہ رحمت نازل فرمائیے (حضرت) محمد ﷺ پر اور ان کی آل پر جیسے کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی (حضرت) ابراہیم پر اور ان کی آل پر، بے شک آپ تعریف کے مستحق بڑی بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ برکت نازل فرمائیے (حضرت) محمد ﷺ پر اور ان کی آل پر جیسے کہ آپ نے برکت نازل فرمائی (حضرت) ابراہیم پر اور ان کی آل پر، بے شک آپ تعریف کے مستحق بڑی بزرگی والے ہیں۔)

دروود شریف کے بعد کی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمَتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
 فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَزْهَنْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّجِيمُ ○

(اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور اس میں شک نہیں کہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، پس آپ اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دیجیے اور مجھ پر حرم فرمادیں، بے شک آپ ہی بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں۔)

سلام

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَرَحْمَةُ اللَّهِ

(سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔)

نماز کے بعد کی دعا

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ

(اے اللہ آپ ہی سلامتی دینے والے ہیں اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی (ملکتی) ہے،
بہت برکت والے ہیں آپ اے عظمت اور بزرگی والے۔)

دعاۓ قنوت

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنَيُّ
عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْرُكَ وَلَا تَنْكُفُكَ وَنَخْلُغُ وَنَتْرُكَ مَنْ يَقْجُرُكَ
اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نُسْعِي وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوا
رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

(اے اللہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں اور آپ سے معافی مانگتے ہیں اور آپ پر ایمان رکھتے
ہیں اور آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور آپ کی بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور آپ کا شکر

ادا کرتے ہیں اور آپ کی ناشکری نہیں کرتے اور ہم اس شخص کو الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں جو آپ کی نافرمانی کرے۔ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور بجدہ کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف دوڑتے اور جھپٹتے ہیں اور آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک آپ کا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔)


نماز کے بعد کے اذ کا مسنونہ

هر فرض نماز کے بعد 33 بار ”سُبْحَانَ اللَّهِ“، 33 بار ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ اور 34 بار ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔

نماز کا طریقہ

ابتدائی باتیں

سب سے پہلے سنت کے مطابق وضو کریں اور پاک و صاف جگہ پر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ان باتوں پر عمل کریں:



(1) اپنا رخ قبلہ کی سمت کر لیں۔

(2) بالکل سیدھے کھڑے ہوں اور اپنی نظریں سجدے کی جگہ کی طرف کر لیں۔

(3) دونوں پاؤں اس طرح سیدھے کر لیں کہ آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی جانب ہو۔

(4) مرد اور بچے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ شلوار، ٹراؤز ریا یا پینٹ کے پانچھے مخنوں سے اوپر ہر حال میں رکھنے چاہئیں۔ کیونکہ پانچھے بچے رکھنے سے مردوں کو ہمارے آقا رسول اللہ ﷺ نے بہت تاکید سے منع فرمایا ہے۔

لہذا نماز میں تو اس کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔

خواتین کے لیے اضافی ابتدائی باتیں:

خواتین اور پچیوں کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے دوران ان کا سارا جسم کپڑے میں ڈھکا ہوا ہو (دوسرا اور کپڑا اتنا موٹا ہونا ضروری ہے کہ اس میں سے جسم نظر نہ آئے)، صرف چہرہ، ہاتھ پہنچوں تک اور پاؤں ٹھنڈوں سے نیچے تک کھولنے کی اجازت ہے کہ جسم کے یہ حصے ستر میں داخل نہیں۔ لہذا خواتین کو نماز شروع کرنے سے پہلے اس بات کاطمینان کر لینا چاہیے کہ ان کے چہرے ہاتھوں اور پاؤں کے سواتمام جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے، نہ تو کلاسیاں کھلی ہوں، نہ کان کھلے ہوں اور نہ اتنا چھوٹا دوپٹا ہو کہ بال نیچے لٹک جوئے نظر آئیں۔


یاد رکھیں کہ اگر نماز کے دوران خواتین کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کہ سوا جسم کے کسی بھی عضو کا ایک پوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ اتنی دریکھلا رہ گیا کہ جتنی دیر میں تین بار ” سبحان ربی العظیم ” کہا جا سکے تو نماز ہی نہیں ہوگی اور اگر کم ہو تو نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ ہو گا۔

مردوں اور خواتین کی نماز کے طریقہ میں کچھ فرق ہے، اس لیے نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے خواتین کے لیے صرف فرق کو اس کے موقع پر الگ عنوان کے تحت لکھ دیا گیا ہے، لہذا خواتین اس فرق کو بھی ملحوظ رکھیں۔ ہر جگہ تحریر فرق کے علاوہ خواتین کے لیے بھی باقی طریقہ وہی ہے جو مردوں کا ہے۔ لہذا خواتین اصل طریقے اور اس کے بعد لکھے ہوئے فرق کو غور سے پڑھیں، اور جس عمل میں فرق نہ لکھا ہو، اس میں مردوں کے طریقے کے مطابق عمل کریں۔

نیت


اب نماز کی نیت کریں۔ بچو! نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، یعنی آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو جس ارادے سے کر رہے ہوں وہ آپ کی نیت ہے۔ آپ اس وقت جس ارادے سے کھڑے ہیں یعنی فلاں نماز کے لیے تو یہی آپ کی نیت ہے۔ نیت کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، البتہ دل میں نیت کرنا ضروری ہے۔

تکبیر تحریمہ



اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح انٹھائیں کہ آپ کی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوا اور انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو سے یا تو بالکل مل جائیں یا ان کے برابر آجائیں اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی رہیں۔ اس طرح ہاتھ انٹھاتے ہوئے تکبیر کہیں۔

نماز کی یہ پہلی تکبیر، تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے (کیونکہ اس کے بعد نماز کے اركان و افعال کے علاوہ ہر کام منع ہو جاتا ہے) تکبیر تحریمہ کہ کر ہاتھ باندھ لیں۔




خواتین کے لیے تکبیر تحریم کے وقت ہاتھ انٹھانے کا فرق:

خواتین اور بچیاں تکبیر تحریم کے لیے ہاتھ کا نوں تک نہیں بلکہ کندھوں تک انٹھائیں اور وہ بھی دوپٹے کے اندر اندر، ہاتھ دوپٹے سے باہر نہ نکالیں۔

وقت تکبیر تحریم کے لیے ہاتھ اوڑھنی کے اندری رجھ کراٹھنے پائیں، اور اوڑھنی اتنی ہوتی ہوتی چاہیے کہ اس میں سے جسم نظرنا آئے۔ تصویر میں صرف پوزیشن داش کرنے کے لیے ہاتھوں کو دکھایا گیا ہے۔

ہاتھ باندھنے کا طریقہ

ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریم کرنے کے بعد ہاتھوں کو نیچے لا کیں اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے باہمیں ہاتھ کے پہنچ (جوڑ) کے گردھلقہ بنانا کر اسے پکڑ لیں اور باقی تین انگلیوں کو باہمیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح پھیلا دیں کہ تینوں انگلیوں کا رخ باہمیں ہاتھ کی کہنی کی طرف رہے اور اسی طرح باہمیں ہاتھ کو بھی پھیلا لیں کہ اس کی انگلیوں کا رخ دائیں ہاتھ کی کہنی کی طرف رہے۔ اس طرح ہاتھ ملا کر ناف سے ذرا سائچے باندھ لیں۔



ہاتھ باندھنے کے بعد ہاتھوں کی اندری طرف کی تصویر



خواتین کے لیے ہاتھ باندھنے کا فرق:

خواتین حلقہ نہ ہنا میں، اور ہاتھ ناف کی بجائے سینے پر اس طرح رکھیں کہ دامیں ہاتھ کی ہتھیلی با میں ہاتھ کی پشت پر آ جائے۔

نوت: قیام کے دوران ہاتھ اوڑھنی کے اندر ہی باندھنے چاہیئے، اور اوڑھنی اتنی موٹی ہوئی چاہیئے کہ اس میں سے جسم نظرنا آئے۔ تصویر میں صرف پوزیشن واضح کرنے کے لیے ہاتھوں کو دکھایا گیا ہے۔

قیام

اپنے ہاتھوں کو مذکورہ بالاطریقے سے باندھنے کے بعد اب آپ کو اطمینان سے کھڑا ہونا ہے۔ اور کچھ ذکر و تلاوت کرنی ہے۔ اس طرح کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ کھڑے ہوتے ہوئے خیال رکھیں کہ آپ کا جسم نہ تو بالکل اکٹھے اور نہ بالکل ڈھیلا پڑے بلکہ اپنی عام حالت پر جسم کو چھوڑ کر خشوع و خضوع سے کھڑے ہوں۔



شنااء

اب شنااء پڑھیں۔

تعوذ

شنااء کے بعد تعوذ پڑھیں۔

تمییہ

تعوذ کے بعد تمییہ پڑھیں۔

سورۃ الفاتحہ

تمییہ کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں جو قرآن کریم کی پہلی سورۃ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آہستہ آواز سے ”آمین“، ”کبیں“۔

کسی سورۃ یا چند آیات کی تلاوت

سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کوئی سی بھی سورۃ پڑھیں۔ کسی بڑی سورۃ کی تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔

رکوع

سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد قرآن کریم کی چند آیات یا کسی سورۃ کی تلاوت کے بعد رکوع

کریں۔ جس کا طریقہ یہ ہے:



(1) اپنے اوپر کے ہڑکو آگے کی طرف اس حد تک جھکائیں کہ گردن اور کمر تقریباً ایک سطح پر آ جائیں نہ اس سے زیادہ جھکیں اور نہ کم۔

(2) اپنی ٹانگیں بالکل سیدھی رکھیں، ان میں خم نہ آنے دیں۔

(3) دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوتی ہوں یعنی ہر دو انگلیوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور خیال رکھیں کہ اس حالت میں کلائیاں سیدھی اور بازو تنے ہوئے رہنے چاہیں، ان میں خم نہیں آنا چاہیے۔

(4) پاؤں کے ٹختے ایک دوسرے کے مقابل یعنی آمنے سامنے رکھیں۔ یہ پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب رکھیں۔





خواتین کے رکوع کے طریقہ کا فرق:

- (1) خواتین رکوع میں اتنا جھکیں کہ دونوں ہاتھ گھٹھنوں تک پہنچ جائیں، مردوں کی طرح خوب اچھی طرح جھک کر کمر کو سیدھا نہ کریں۔
- (2) ہاتھوں کی انگلیاں گھٹھنوں پر ملا کر رکھیں۔
- (3) بازوں کو پہلو سے لگا کر رکھیں۔

رکوع کی تسبیح

مندرجہ بالا طریقے کے مطابق رکوع کر کے (جھک کر) رکوع کی تسبیح پڑھیں۔ رکوع کی تسبیح کو کم از کم تین دفعہ یا پانچ دفعہ یا سات دفعہ آرام آرام سے پڑھیں۔

قومہ

رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سیدھے کھڑے ہوں کہ جسم میں کوئی ختم باقی نہ رہے۔ اور نظریں سجدے کی جگہ کی طرف رہیں۔ خیال رہے کہ جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے سجدے میں نہ جائیں۔

قومہ کی تسمیع

رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے قومہ کی تسمیع ایک دفعہ پڑھیں۔

قومہ کی تحمید

اور کھڑے ہو کر تسمیع کے بعد قومہ کی تحمید ایک دفعہ پڑھیں۔

سجدہ

قومہ کے بعد تکبیر کہتے ہوئے اپنا سر نیچے زمین پر رکھنا ہے۔ اسے سجدہ کہتے ہیں۔

سجدہ میں جانے کا طریقہ

سب سے پہلے گھنونوں کو خم دے کے انھیں زمین کی طرف اس طرح لے جائیں کہ سیدنا آگے کونہ جھکے۔

جب گھنٹے زمین پر نکل جائیں تو سینے کو جھکانا شروع کریں اور پہلے دونوں ہاتھوں ہاتھ زمین پر رکھیں پھرناک اور آخر میں پیشانی رکھیں۔




خواتین کے لیے سجدے میں جانے کا فرق:

خواتین شروع ہی سے سینہ جھکا کر سجدے میں جا سکتی ہیں۔ مردوں کی طرح سیدھا رہنا خواتین کے لیے ضروری نہیں۔

مسجدے کی ہیئت

مسجدہ کرتے ہوئے آپ کی ہیئت اس طرح ہونی چاہیے:

(1) مسجدے میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے کا نوں کی اوکے سامنے ہو جائیں۔



(2) دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہونی چاہیں، یعنی انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہوں اور ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔

(3) انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔

(4) کہدیاں زمین سے اٹھا کر رکھیں، زمین پر نیکنا درست نہیں۔

(5) دونوں پاؤں کو اپنے جسم کے پہلوؤں سے ہٹا کر رکھیں۔




(6) رانیں پہیت سے الگ رکھیں، ملا کیں نہیں۔

(7) پورے مسجدے میں ناک اور پیشانی کو زمین پر نکا کر رکھیں۔

(8) دونوں پاؤں انگلیوں کے بل اس طرح کھڑے رکھیں کہ ایڑھیاں اور پر ہوں اور تمام انگلیاں اچھی طرح مرکز کر قبلے رخ ہو گئی ہوں۔

(9) خیال رہے کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہ پائیں بلکہ پورے سجدے میں پاؤں زمین پر لٹک کر رکھیں۔



خواتین کے لیے سجدے کی سیست کا فرق:

خواتین سجدہ میں مندرجہ ذیل فرق کو ملاحظہ رکھیں:

- (1) ان کا پیٹ رانوں سے بالکل مل جائے۔
- (2) بازوں کی پہلو سے بالکل ملے ہوئے ہوں۔
- (3) پاؤں کو بالکل کھڑا کرنے کی بجائے انھیں دائیں طرف نکال کر بچھادیں۔
- (4) کہنیوں سمیت پوری بانیمیں زمین پر رکھ دیں۔



سجدے کی تسبیح

سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھیں۔ سجدے کی تسبیح کم از کم ۳ مرتبہ یا ۵ مرتبہ یا ۷ مرتبہ پڑھیں۔

دو سجدوں کے درمیان قعدہ

نماز کی ہر رکعت میں دو سجدے کرتے ہیں اور دونوں سجدوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، اس بیٹھنے کو قعدہ یا جلسہ کہتے ہیں۔ قعدے میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے:

- (1) سجدے سے تکبیر کہتے ہوئے پہلے سراخھائیں، پھر ناک اور آخر میں دونوں ہاتھ اٹھائیں۔
- (2) اوپر کی سطح میں لکھے ہوئے طریقے کے مطابق اٹھتے ہوئے دونوں زانوں بیٹھ جائیں یعنی بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کر لیں کہ اس کی انگلیاں مذکور قبلہ رخ ہو جائیں۔
- (3) بیٹھتے وقت دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ لیں مگر انگلیاں گھننوں کی طرف لٹکی ہوئی نہیں ہونی چاہیں بلکہ




انگلیوں کے آخری سرے گھننوں کے ابتدائی کنارے تک پہنچ جائیں۔

- (4) قعدے میں اپنی نظریں اپنی گود کی طرف رکھیں۔
- (5) کم از کم اتنی دیر بیٹھیں کہ جتنی دیر میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہا جاسکتا ہے۔


خواتین کے لیے قعدہ میں بیٹھنے کا فرق:

خواتین قعدہ میں باکیس کو لمحے پر بیٹھیں اور دونوں پاؤں دامیں طرف نکال کر دامیں پر رکھیں۔
نیز دونوں ہاتھ رانوں پر اور انگلیاں خوب ملا کر رکھیں۔



دوسرے سجدے

دوسرے سجدے میں بھی پہلے سجدے کی طرح سمجھیر کرتے ہوئے جائیں۔ یعنی پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں پھر ناک اور آخر میں پیشانی، اور اپنے جسم کی بیت اس طرح کر لیں جس طرح پہلے سجدے میں تھی۔



دوسرے سجدے سے اٹھنا

دوسرے سجدے سے سمجھیر کرتے ہوئے پہلے سجدے کی طرح اٹھیں یعنی پہلے پیشانی اٹھائیں، پھر ناک اٹھائیں پھر ہاتھ اور پھر گھٹنے اور سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہوتے ہوئے زمین پر ہاتھ رکھ کر سہارا نہیں لیں بلکہ گھننوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھیں۔ اب آپ کی دوسری رکعت شروع ہو گئی۔




دوسری رکعت اور اس کے بعد کی رکعتیں

تکبیر تحریمہ سے لے کر دوسرے بجدعے سے اٹھنے تک آپ نے جتنا بھی عمل کیا اس کے مجموعے کو رکعت کہتے ہیں۔ پہلی رکعت کے بعد جتنی بھی رکعتیں ادا کرنی ہوں اسی طرح ادا کریں گے، بس اتنا فرق ہو گا کہ تکبیر تحریمہ، ثناء اور تعلوٰ نہیں پڑھے جائیں گے بلکہ اب ہر رکعت تمیہ سے شروع ہو گی۔

قعدہ میں بیٹھنا

بچو! نماز پڑھتے ہوئے ہر دور رکعت کے بعد اسی طرح بیٹھنا ہوتا ہے جس طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ خواہ آپ دور رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں یا تین رکعت والی یا چار رکعت والی، ہر دور رکعت کے بعد بیٹھنا ضروری ہے۔ سجدوں کے درمیان والے قعدے اور ہر دور رکعت کے بعد والے قعدے میں بیٹھنے کے انداز کا کوئی فرق نہیں، البتہ اتنا فرق ہے کہ ہر دور رکعت کے بعد والے قعدے میں پچھاذا کار پڑھنے کا اضافہ ہو جاتا ہے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔



قعدہ کی فرمیں

ہر دور کعت کے بعد والے قعدے دو طرح کے ہوتے ہیں: (1) قعدہ اولی (2) قعدہ آخری

قدہ اولی اس قعدہ کو کہتے ہیں جو تین یا چار رکعتوں والی نماز میں دور رکعیں پڑھنے کے بعد اور تمیزی رکعت شروع کرنے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ اور قعدہ آخری اس قعدہ کو کہتے ہیں جو کسی بھی نماز کی آخری رکعت میں کیا جاتا ہے۔ خواہ وہ نماز دور کعت والی ہو یا تین رکعت والی یا چار رکعت والی۔ (یعنی اگر دور کعت والی نماز میں گے تو اس میں پہلا قعدہ ہی قعدہ آخر ہو گا اور اس میں قعدہ آخر کے اذکار پڑھنے ہوں گے۔) دونوں قعدوں کے اذکار و اعمال میں تھوڑا سا فرق ہے۔

قدہ اولی کا طریقہ

قدہ اولی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دو مری رکعت کا دوسرا الجدہ کرنے کے بعد تجھیں کہتے ہوئے اسی طرح بیٹھ جائیں جس طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔



تشہد یا التحیات

اور پھر تشہد یعنی التحیات پڑھیں۔ التحیات پڑھتے ہوئے جب آپ ”اشهد ان لا“ پر پہنچیں تو اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں۔

شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کا طریقہ

التحیات پڑھتے ہوئے جب ”اشهد ان لا“ پر پہنچیں تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اس طرح اشارہ کریں کہ نیچے کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنائیں، چھپنگلی اور اس کے برابر والی انگلی بند کر لیں اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائیں کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، بالکل آسمان کی طرف انھی ہوئی نہ ہو۔

جب ”الا اللہ“ پر پہنچیں تو شہادت کی انگلی نیچے کر لیں، لیکن باقی انگلیوں کی جوبیت اشارے کے وقت بنائی تھی اس کو آخر (سلام پھیرنے) تک برقرار رکھیں۔



تیسرا اور چوتھی رکعت پڑھنے کا طریقہ

تشہد پڑھ کر آپ سمجھیں کہتے ہوئے تیسرا رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں جس طرح پہلی رکعت پڑھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ کھڑے ہوتے ہوئے زمین کا سہارا نہ لیں بلکہ ہاتھوں اور گھٹنے کے سہارے سے اٹھیں۔

تیسرا رکعت اسی طرح پڑھیں جس طرح آپ نے دوسری رکعت پڑھی تھی۔ پھر تیسرا رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد اگر آپ تین رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو قعدہ آخرہ میں بیٹھ جائیں (جس کا طریقہ آگے آرہا ہے)، اور اگر چار رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور چوتھی رکعت اسی طرح ادا کریں جس طرح آپ نے دوسری اور تیسرا رکعت ادا کی تھی۔ اور پھر چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے قعدہ آخرہ کے لیے بیٹھ جائیں۔

قعدہ آخرہ کا طریقہ

آخری رکعت کے بعد قعدہ آخرہ میں اسی طرح بیٹھیں جس طرح قعدہ اولیٰ میں بیٹھتے تھے۔ اور پھر قعدہ اولیٰ کی طرح تشبید پڑھیں۔

درود شریف


تشہد کے بعد درود شریف (درود ابراہیمی) پڑھیں۔

درود شریف کے بعد کی دعا

اور پھر درود شریف کے بعد کی دعا پڑھیں۔

سلام پھیرنے کا طریقہ

سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کے بعد سلام کے الفاظ ادا کرتے ہوئے پہلے سیدھی طرف گردن کو اتنا موڑیں کہ اگر کوئی آپ کے پیچھے بیٹھا ہوتا سے آپ کا دایاں رخسار نظر آجائے اور پھر سلام کے الفاظ ادا کرتے ہوئے اپنی گردن کو باہمیں طرف اتنا موڑیں کہ اگر کوئی آپ کے پیچھے بیٹھا ہوتا سے آپ کا دایاں رخسار نظر آجائے۔



جب دائیں طرف سلام پھیریں تو یہ نیت کریں کہ دائیں طرف جو انسان اور فرشتے ہیں، ان کو سلام کر رہے ہیں اور باہمیں طرف سلام پھیرتے ہوئے باہمیں طرف موجود انسانوں اور فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کریں۔

اہم ہدایت

نماز کے تمام اركان و اعمال کو تکمیل ہبھر کر اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے جلدی جلدی نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سکون کے ساتھ نماز کے ہر عمل کو اس کے مسنون طریقے کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔

نماز کے بعد کی دعا

نماز کے بعد جو دعاء مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ وہ دعا بھی تعلیم کی گئی ہے جو کتاب کے آغاز میں اذکار نماز کے بیان میں لکھی ہے۔

دعائیں مانگتے ہوئے دونوں ہاتھ اتنے اٹھائیں کہ وہ سینے کے سامنے آ جائیں، دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی ساقا فاصلہ ہو، نہ ہاتھوں کو بالکل ملاجئیں اور نہ دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ رکھیں۔ نیز دعا کرتے وقت ہاتھوں کے اندر ورنی ہے کوچھ رے کے سامنے رکھیں۔

یہاں تک بفضلہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا طریقہ کامل ہوا۔ اب آپ کو نماز کے متعلق کچھ اہم باتیں بتاتے ہیں۔

نماز کے متعلق کچھ اہم باتیں

پیارے بچو! کچھ نمازیں فرض ہوتی ہیں، کچھ واجب، کچھ سنت اور کچھ غل.

فرض نمازیں وہ ہوتی ہیں جنہیں ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، وہ کسی بھی وقت معاف نہیں ہوتیں اور اگر کبھی کسی شدید مجبوری میں چھوٹ جائیں تو انہیں وہ مجبوری ختم ہونے کے بعد فوراً پڑھنا ضروری ہے یہ فرض نمازیں مردوں کو مسجد میں جا کر امام کے پیچھے باجماعت ادا کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر مرد کسی مجبوری کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکیں تو وہ بغیر جماعت کے اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ہمیشہ خواتین کے لیے کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے میں پڑھنے سے افضل ہے اور برآمدے میں پڑھنا صحن میں پڑھنے سے افضل ہے۔

واجب نماز بھی فرض کی طرح ہوتی ہے اسے بھی ہر حال میں پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو بعد میں پڑھنا ضروری ہے۔ (دن بھر کی پانچ نمازوں میں صرف عشاء کی نماز کے ساتھ تین رکعت و ترواجب ہیں، جن کا طریقہ آگے آرہا ہے۔)

سنن نمازیں دو طرح کی ہوتی ہیں: (1) سنن مؤکدہ (2) سنن غیر مؤکدہ

سنن مؤکدہ ان نمازوں کو کہتے ہیں جو فرض نماز کی طرح ضروری تو نہیں ہوتیں، لیکن ان کو بغیر کسی مجبوری کے صرف سنتی کی وجہ چھوڑنا جائز نہیں۔ اس لیے انہیں بھی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے سننیں چھوٹ جائیں تو نماز کا وقت گزرنے کے بعد انہیں فرضوں کی طرح قضا (یعنی وقت نکلنے کے بعد چھوٹی ہوئی نماز پڑھنا) نہیں کرنا پڑتا۔

غیر موکدہ سنتیں اور نفل ان نمازوں کو کہتے ہیں جنہیں پڑھنا ثواب کا باعث اور بہت اچھا کام ہے، لیکن اگر کوئی نہ پڑھ سکتے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ یعنی انہیں پڑھنا لازمی نہیں۔

پانچوں وقت کی نمازوں کی تفصیل

اب ہم آپ کو دن بھر کی پانچ فرض نمازوں اور ان کے ساتھ پڑھی جانے والی سنتوں، نفل اور واجب کی تعداد اور ان نمازوں کے اوقات بتاتے ہیں۔

نمازِ نجمر

یہ نماز صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دور رکعت سنت موکدہ پڑھیں اور پھر دور رکعت فرض پڑھیں۔

نمازِ ظہر

یہ نماز دو پھر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چار رکعت سنت موکدہ، پھر چار رکعت فرض، پھر دور رکعت سنت موکدہ اور آخر میں دور رکعت نفل پڑھیں۔

نمازِ عصر

یہ نماز سورج چھپنے سے ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے ادا کی جاتی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چار رکعت سنت موکدہ پڑھیں اور پھر چار رکعت فرض پڑھیں۔

نمازِ مغرب

یہ نماز سورج چھپنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تین رکعت فرض پڑھیں، پھر دور رکعت سنت موکدہ اور پھر دور رکعت نفل پڑھیں۔

نمازِ عشاء

یہ نماز سورج چھپنے کے ڈیڑھ دو گھنٹے بعد پڑھی جاتی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چار رکعت سنت غیر موکدہ، پھر چار رکعت فرض، پھر دور رکعت سنت موکدہ، پھر تین رکعت و تراجمب اور آخر میں دور رکعت نفل پڑھیں۔

نمازِ جمعہ

جمعہ کے دن مردوں کو نمازِ ظہر کے وقت ظہر کی نماز کی بجائے جمعہ کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور یہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ اسے بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے اگر بہت شدید

مجبوری میں کسی کی نماز جمعہ کی جماعت چھوٹ جائے تو اسے نماز ظہر پڑھنا چاہیے۔ جمعہ کی نماز میں کل 14 رکعتیں ہوتی ہیں، جن کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے چار رکعت سنت مؤکدہ، پھر دور رکعت فرض، پھر چار رکعت سنت مؤکدہ، پھر دور رکعت سنت مؤکدہ اور آخر میں دور رکعت نفل پڑھتے ہیں۔

نماز جمعہ کی دور رکعت فرض سے پہلے امام صاحب عربی میں خطبہ دیتے ہیں، مردوں کے لیے وہ خطبہ سننا بھی ضروری ہے۔

فرض نماز کے بارے میں اہم ہدایت

فرض نماز کی آخری دور رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، اس کے بعد سورۃ یا اور دوسری آیات نہیں پڑھیں۔ فرض کے علاوہ ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کوئی دوسری سورۃ یا چند آیات ملانا ضروری ہے۔

باجماعت نماز پڑھنے کے بارے میں اہم ہدایت

اگر امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں تو تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد کی قرأت اور قومد کے لیے کھڑے ہوتے وقت کی تسمیع نہ پڑھیں۔ یہ اذکار صرف امام کو پڑھنے ہیں، ان موقعوں پر آپ خاموش کھڑے رہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام اذکار حسب معمول آپ کو پڑھنے ہیں۔





تین رکعت و تر (واجب) کا طریقہ

بچو! عشاء کی نماز کے ساتھ و تر پڑھنا واجب ہیں۔ وتر کی نماز کی تین رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس کا طریقہ وہی ہے جو دوسری نمازوں کا ہے، بس اتنا فرق ہے کہ وتر کی تیسرا رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت یا کچھ دوسری آیتیں پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں (عورت کندھوں تک اٹھائیں گی) جیسے تکبیر تحریمہ میں کرتے ہیں اور پھر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھیں، اس کے بعد رکوع کریں اور باقی نماز پوری کریں۔

پچھوں کے لائے بیوق آئو ڈیکسٹ کرایاں

اور کارٹون اینیمیشن پر مشتمل ویڈیو سی ڈیز

CD / VCD / DVD



ایم آئی ایس اسٹوڈیو

523 فون: 75350 پوسٹ ماؤنٹ، بکری بگر، آدم بی، بیکری، 044-4944448 - 4931044

ویب سائٹ: www.mis4kids.com